



دو عورتوں جن کے ساتھ ان کے دو بچے تھے، بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کے بچے کو اٹھا کر لے گیا

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”دو عورتوں جن کے ساتھ ان کے دو بچے تھے، بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کے بچے کو اٹھا کر لے گیا اس نے اپنی سہیلی سے کہا کہ تیرے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا دوسری نے کہا کہ وہ تیرے بچے کو اٹھا کر لے گیا اور وہ فیصلہ کر لیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں تو انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا وہاں سے نکلیں اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کو سارا ماجرا سنایا انہوں نے (سلیمان علیہ السلام) سے فرمایا: مجھے چھری دو اس کو درمیان سے دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں چھوٹی کے لئے لگی کے اللہ آپ پر رحم کرے! ایسا نہ کرنا یہ اسی کا بیٹا ہے تو آپ علیہ السلام نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ کر دیا“

[صحیح] [متفق علیہ]

نبی کریم ﷺ نے دو عورتوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے بیٹوں کو لے کر باہر نکلیں تو ان میں سے ایک کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا اور ایک کا بچہ لے گیا دونوں نے کہنے لگیں کہ جو بچہ لے گیا ہے میرا بچہ ہے وہ دونوں فیصلہ کر لیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں تو انہوں نے اجتہاد کرتے ہوئے فیصلہ بڑی کے حق میں کر دیا کیوں کہ ممکن تھا کہ بڑی اب بچے نہ جن سکے، جب کے چھوٹی ابھی جوان تھی اور امید تھی کہ مستقبل میں وہ اور بچے جن لے گی وہ وہاں سے نکلیں اور بچے کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئیں اور ان کو سارا واقعہ سنایا انہوں نے چھری منگوائی اور کہا کہ میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں (کہ آدھا آدھا لے لو) بڑی رضا مند ہو گئی جب کے چھوٹی نے اپنا دعویٰ چھوڑ دیا اور اس کی شفقت اور رحمت غالب آئی کیوں کہ وہ حقیقتاً اس کا بچہ تھا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی! یہ اسی کا بیٹا ہے تو انہوں نے دلیل اور قرینہ کی موجودگی میں چھوٹی کے حق میں فیصلہ کر دیا کیوں کہ اس کا بچہ پر رحم کھانا اور یہ کہنا کہ یہ بڑی کا ہے بچہ ہے اور اس کا زندہ رہنا اس کے دو حصوں میں تقسیم ہونے سے بہتر تھا تو انہوں نے فیصلہ چھوٹی کے حق میں کر دیا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3120>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

